

09 نومبر 2018

## برامپٹن میں ونٹر لائٹس ویکینڈ - 16 تا 18 نومبر

برامپٹن، آن - برامپٹن میں انتہائی پرجوش لمحات میں سے ایک لمحہ آنے والا ہے - چھٹیوں کا موسم آ رہا ہے!

سٹی آف برامپٹن، 2018 کے چھٹیوں کے موسم کا باضابطہ آغاز ونٹر لائٹس ویکینڈ سے کرے گا، جس میں 16 تا 18 نومبر تک کچھ زبردست تقریبات کا ایک شاندار سلسلہ خصوصی طور پر مرکز نگاہ رہے گا۔

### ہالیڈے پاپ اپ شاپی (Holiday Pop-Up Shoppe)

سٹی آف برامپٹن کی پہلی ہالی ڈے پاپ اپ شاپی کے لیے تیار ہو جائیں، جس میں سٹی ہال آٹریم اور کنزرویٹری میں اپنی نوعیت کے منفرد وینڈرز نمایاں طور پر موجود ہوں گے، جو منفرد تحائف، مزیدار کھانوں اور خاندان بھر کی دلچسپیوں کے لیے موسم سرما کی آسائشوں کا ایک دلکش ماحول بنائیں گے۔ اس سال کی مارکیٹ میں اپنا زیور خود بنانے کے اسٹیشن، سیب کے گرم سرکے اور انتہائی جگمگاتے گلوکاروں جیسی جشن کی نمایاں خصوصیات موجود ہوں گی۔

- جمعہ، 16 نومبر کو شام 6 تا رات 10
- ہفتہ، 17 نومبر کو صبح 10 تا رات 10
- اتوار، 18 نومبر کو صبح 11 تا دن 3

مزید تفصیلات، بشمول تفریحی سرگرمیوں اور وینڈرز کی تفصیلات کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### سالانہ ٹری لائٹنگ تقریب (The Annual Tree Lighting Ceremony)

سالانہ ٹری لائٹنگ تقریب برامپٹن میں چھٹیوں کے موسم کے باضابطہ آغاز کے جشن کی تقریب ہوتی ہے۔ برامپٹن کے رہائشی ایک ساتھ مل کر، کین وبلینز اسکوائر میں سٹی کے 60 فٹ کے صنوبر کے درخت پر 10,000 سے زیادہ کرسمس لائٹس کے روشن ہونے کے لیے الٹی گنتی گنیں گے۔ اس تقریب میں بی جیزڈ (B. Jazzed) کی جانب سے منتظم شدہ موسیقی کی تفریح اور پورے خاندان کے لیے اندرونی اور بیرونی تیوباری سرگرمیاں موجود ہوں گی۔

- جمعہ، 16 نومبر کو شام 6 تا رات 8

مزید تفصیلات، بشمول تفریحی سرگرمیوں اور سڑکوں کی بندش، کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### برامپٹن کی سینٹا کلاز پریڈ (The Brampton Santa Claus Parade)

برامپٹن کی سب سے پرانی روایات میں سے ایک، سالانہ برامپٹن سینٹا کلاز پریڈ ریجن آف پبل میں سب سے بڑا ایک روزہ تہوار ہے اور کینیڈا میں سب سے بڑی رات کے وقت کی پریڈ سمجھی جاتی ہے۔ پریڈ اور سینٹا اور مسز کلاز کو برامپٹن میں خوش آمدید کہنے کا موقع پر گز ضائع نہ کریں۔ چمچماتی روشنیوں، فلوٹس، مارچنگ بینڈز اور رنگا رنگ کاسٹیومز میں ملبوس کرداروں اور مزید چیزوں سے بھری شام سے لطف اندوز ہوں۔

- ہفتہ، 17 نومبر کو شام 5 تا رات 7

مزید تفصیلات، بشمول پریڈ کا راستہ، پریڈ کی تاریخ اور سڑکوں کی بندش، کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

### سینٹا اور مسز کلاز کے ساتھ تصاویر (Photos with Santa and Mrs. Claus)

سٹی ہال میں تشریف لائیں اور سینٹا اور مسز کلاز کے ساتھ اپنی تصویر بنوائیں۔ تمام لوگوں کو ایک تصویر کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

• اتوار، 18 نومبر کو صبح 11 تا دن 3

آپ ونٹر لائٹس ویکینڈ کے لیے تقریبات کا پورا شیڈول [یہاں](#) سے حاصل کر سکتے ہیں۔

تمام ڈاؤن ٹاؤن میونسپل گیراجوں میں جمعہ کو شام 7 بجے سے پورے ویکینڈ کے لیے مفت پارکنگ دستیاب ہو گی: سٹی ہال، ویسٹ ٹاور، نیلسن اسکوائر، جان اسٹریٹ اور روز تھیٹر۔

تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ پیل ریجنل پولیس کی ٹائز فار ٹائٹس (Toys for Tots) مہم کی حمایت کرنے کے لیے ایک بغیر شاپر والا کھلونا بطور تحفہ یا خراب نہ ہونے والی کھانے کی کوئی چیز لائیں، جو برامپٹن میں موجود فوڈ بینکس کو عطیہ کر دی جائے گی۔ عطیات ویکینڈ کے دوران سٹی ہال کے مرکزی داخلے پر چھوڑے جا سکتے ہیں۔

#### اقتباس

"ونٹر لائٹس ویکینڈ باضابطہ طور پر برامپٹن میں چھٹیوں کے موسم کا آغاز کرے گا اور ہم سٹی ہال کیمپس میں آپ کی میزبانی کرنے کے لیے پرجوش ہیں! اس سال کے ونٹر لائٹس ویکینڈ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ شامل ہے – روشنیاں، موسیقی، رقص اور مزید بہت کچھ۔ آپ اس مزیدار موقع کو یقیناً چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔"

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

کرسٹین شرما

میڈیا ریلیشنز

سٹی آف برامپٹن

905.874.2880 | [christine.sharma@brampton.ca](mailto:christine.sharma@brampton.ca)